



AsSaffat

الصفات

الصَّافَّاتِ

In the name of Allah,
Most Gracious, Most
Merciful.

اللہ کے نام سے جو بہت مہربان
نہایت رحم والا ہے۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

1. By those ranged
themselves in ranks.

قسم ہے صف والوں کی قطار در قطار۔

وَالصَّافَّاتِ صَفًّا ۝۱

2. Then by those who
drive away with power.

پھر انکی جو دور کرتے ہیں قوت سے۔

فَالزُّجُرَاتِ زَجْرًا ۝۲

3. Then by those who
recite the reminder.

پھر انکی جو تلاوت کرتے ہیں ذکر کی۔

فَالتَّلِيَاتِ ذِكْرًا ۝۳

4. Indeed, your Lord
is surely One.

بلاشبہ تمہارا معبود یقیناً ایک ہے۔

اِنَّ اِلٰهَكُمْ لَوَاحِدٌ ۝۴

5. Lord of the heavens
and the earth and
whatever is between
them both, and Lord
of the easts.

رب آسمانوں اور زمین کا اور جو کچھ ان
دونوں کے درمیان ہے اور رب
ہے مشرقوں کا۔

رَبُّ السَّمٰوٰتِ وَاَلْاَرْضِ وَاَمَّا
بَيْنَهُمَا وَرَبُّ الْمَشَارِقِ ۝۵

6. Indeed, We have
adorned the nearest
heaven with ornament
of the stars.

بیشک ہم نے سجایا آسمان دنیا کو
نہنت سے ستاروں کی۔

اِنَّا زَيَّنَّا السَّمٰوٰءَ الدُّنْيَا بِزِيْنَةِ
الْكُوْكَبِ ۝۶

7. And guarded
against every rebellious
devil.

اور حفاظت کی ہر ایک شیطان سرکش
سے۔

وَحِفْظًا مِّنْ كُلِّ شَيْطٰنٍ مَّارِدٍ ۝۷

8. They may not listen
to the exalted chiefs
(angels) and they are
pelted from every side.

نہ سن سکیں ملائ اعلیٰ (فرشتوں) کو
اور مارے جاتے ہیں ہر طرف سے۔

لَا يَسْمَعُوْنَ اِلٰى الْمَلٰٓئِ الْاَعْلٰى
وَيُقَدَّفُوْنَ مِنْ كُلِّ جَانِبٍ ۝۸

9. Driven off, and for them is a punishment, perpetual.

بھگانے کو اور انکے لئے ہے عذاب ہمیشہ کا۔

دُحُورًا وَ لَهُمْ عَذَابٌ وَاصِبٌ ﴿١٠﴾

10. Except him who snatched away by theft, then follows him a flame, piercing.

سوائے اسکے جو لے بھاگے چوری سے تو لگ جاتا ہے اسکے پیچھے ایک شعلہ چمکتا ہوا۔

إِلَّا مَنْ خَطِفَ الْخَطْفَةَ فَأَتْبَعَهُ شِهَابٌ ثَاقِبٌ ﴿١١﴾

11. Then ask them: Are they more difficult to create, or those things We have created. Indeed, We created them from a sticky clay.

تو پوچھو ان سے کیا وہ پیدا کرنا زیادہ مشکل ہیں یا جو کچھ ہم نے پیدا کیا۔ بیشک پیدا کیا ہم نے انہیں چمکتی ہوئی مٹی سے۔

فَاسْتَفْتِهِمْ أَهَمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَمْ مَنِ خَلَقْنَا إِنَّا خَلَقْنَاهُمْ مِّنْ طِينٍ لَّازِبٍ ﴿١٢﴾

12. But you wonder and they mock.

بلکہ تم حیران ہو اور وہ مذاق اڑاتے ہیں۔

بَلْ عَجِبْتَ وَيَسْخَرُونَ ﴿١٣﴾

13. And when they are reminded, they do not heed.

اور جب انہیں سمجھایا جاتا ہے تو نہیں سمجھتے۔

وَإِذَا ذُكِّرُوا لَا يَذْكُرُونَ ﴿١٤﴾

14. And when they see a sign, they ridicule.

اور جب وہ دیکھتے ہیں کوئی نشانی ہنسی اڑاتے ہیں۔

وَإِذَا رَأَوْا آيَةً يَسْتَسْخَرُونَ ﴿١٥﴾

15. And they say: This is not but an obvious magic.

اور وہ کہتے ہیں کہ نہیں ہے یہ مگر ایک کھلا جادو۔

وَقَالُوا إِن هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُّبِينٌ ﴿١٦﴾

16. Is it when we are dead and have become dust and bones, shall we indeed be raised.

کیا جب ہم مر گئے اور ہو گئے مٹی اور ہڈیاں تو کیا واقعی ہم اٹھائے جائیں گے۔

عَازًا مِتْنَا وَ كُنَّا تُرَابًا وَ عِظْمًا ؕ إِنَّا لَمَبْعُوثُونَ ﴿١٧﴾

17. And is it, our forefathers of old.

اور کیا ہمارے باپ دادا پہلوں میں۔

أَوْ آبَاؤُنَا الْأَوَّلُونَ ﴿١٨﴾

18. Say: Yes and you will be humiliated.

کہدو ہاں اور تم ذلیل و خوار ہو گے۔

قُلْ نَعَمْ وَ أَنْتُمْ دَاخِرُونَ ﴿١٩﴾

19. So only it will be one shout, then suddenly they will be seeing.

تو بس وہ ہوگی ایک للکار تو یکایک وہ دیکھنے لگیں گے۔

فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ فَإِذَا هُمْ يَنْظُرُونَ ﴿١٩﴾

20. And they will say: Woe to us, this is the Day of Judgment.

اور وہ کہیں گے ہائے خرابی ہماری یہ ہے یوم جزا۔

وَ قَالُوا يَوَيْلَنَا هَذَا يَوْمُ الدِّينِ ﴿٢٠﴾

21. This is the Day of Judgment, that which you used to deny.

یہ ہی دن ہے فیصلے کا وہ جنکو تم جھٹلایا کرتے تھے۔

هَذَا يَوْمُ الْفُضْلِ الَّذِي كُنْتُمْ بِهِ تُكَذِّبُونَ ﴿٢١﴾

22. Assemble those who did wrong, and their companions and what they used to worship.

جمع کرو انکو جو ظلم کرتے تھے اور انکے ساتھیوں کو اور وہ جنکی یہ عبادت کرتے تھے۔

أَحْشُرُوا الَّذِينَ ظَلَمُوا وَأَزْوَاجَهُمْ وَمَا كَانُوا يَعْبُدُونَ ﴿٢٢﴾

23. Other than Allah, then lead them to the path to Hellfire.

سوائے اللہ کے پھر چلا دو انہیں جہنم کے راستے پر۔

مِنْ دُونِ اللَّهِ فَأَهْدُوهُمْ إِلَى صِرَاطِ الْجَحِيمِ ﴿٢٣﴾

24. And stop them, indeed, they are to be questioned.

اور ٹھہراؤ انکو بیشک ان سے پوچھ گچھ ہوگی۔

وَقَفُّوهُمْ إِنَّهُمْ مَسْئُولُونَ ﴿٢٤﴾

25. What is with you, you do not help each other.

کیا ہوا تم کو۔ تم ایک دوسرے کی نہیں مدد کرتے۔

مَا لَكُمْ لَا تَنَاصَرُونَ ﴿٢٥﴾

26. But they, this day are doing submission.

بلکہ یہ لوگ آج تسلیم کر رہے ہیں۔

بَلْ هُمْ الْيَوْمَ مُسْتَسْلِمُونَ ﴿٢٦﴾

27. And they will turn to one another, questioning.

اور وہ رخ کریں گے ایک دوسرے کی طرف باہم سوال کریں گے۔

وَ اتَّخَذَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ ﴿٢٧﴾

28. They will say: Indeed, you used to

وہ کہیں گے بیشک تم ہی آتے

قَالُوا إِنَّكُمْ كُنْتُمْ تَأْتُونَنَا عَنِ

come at us from the right side.

تھے ہم پر دائیں طرف سے۔

الْيَمِينِ ﴿٢٨﴾

29. They will say: But you yourselves were not believers.

وہ کہیں گے بلکہ تم نہ تھے ایمان لانے والے۔

قَالُوا بَل لَّمْ تَكُونُوا مُؤْمِنِينَ ﴿٢٩﴾

30. And it was not for us to have over you any authority. But you were rebellious people.

اور نہ تھا ہمارا تم پر کوئی زور۔ بلکہ تم ہی تھے سرکش لوگ۔

وَمَا كَانَ لَنَا عَلَيْكُمْ مِنْ سُلْطٰنٍ ۗ بَلْ كُنْتُمْ قَوْمًا طٰغِيْنَ ﴿٣٠﴾

31. So has come true upon us the word of our Lord. Indeed, we will taste (punishment).

سو پورا ہو گیا ہمارے لئے قول ہمارے رب کا۔ بیشک ہم چکھنے والے ہیں (عذاب)۔

فَحَقَّ عَلَيْنَا قَوْلُ رَبِّنَا ۗ اِنَّا لَذٰٓئِقُوْنَ ﴿٣١﴾

32. So we misled you, indeed we were ourselves astray.

سو گمراہ کیا ہم نے تمکو بیشک ہم خود گمراہ تھے۔

فَاغْوَيْنٰكُمْ اِنَّا كُنَّا غٰوِيْنَ ﴿٣٢﴾

33. Then indeed they, on that day in the punishment, will be each other's sharers.

پس یقیناً وہ اس روز عذاب میں ایک دوسرے کے شریک ہوں گے۔

فَاِنَّهُمْ يَوْمَئِذٍ فِي الْعَذَابِ مُشْتَرِكُوْنَ ﴿٣٣﴾

34. Indeed, that is how We deal with the criminals.

یقیناً ایسا ہی کرتے ہیں ہم مجرموں کے ساتھ۔

اِنَّا كَذٰلِكَ نَفْعَلُ بِالْمُجْرِمِيْنَ ﴿٣٤﴾

35. Indeed these were those, when it was said to them: There is no god but Allah, they were arrogant.

یقیناً یہ وہ تھے کہ جب کہا جاتا تھا ان سے نہیں معبود سوائے اللہ کے تو متکبر کرتے تھے۔

اِنَّهُمْ كَانُوْۤا اِذَا قِيْلَ لَهُمْ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ ۙ يَسْتَكْبِرُوْنَ ﴿٣٥﴾

36. And they say: Shall we abandon our gods for a poet, a madman.

اور وہ کہتے ہیں کیا ہم چھوڑ دیں اپنے معبودوں کو ایک شاعر کی خاطر۔ مجنون۔

وَيَقُوْلُوْنَ اِنَّا لَتَارِكُوْا اٰهْتِنَا لِشَاعِرٍ ۙ جَبُوْنٍ ﴿٣٦﴾

37. But he has come with the truth, and he confirmed the (earlier) messengers.

حالانکہ وہ آیا ہے حق کے ساتھ اور اسے تصدیق کی (پہلے) رسولوں کی۔

بَلْ جَاءَ بِالْحَقِّ وَ صَدَقَ
الْمُرْسَلِينَ ﴿٢٧﴾

38. Indeed, you are going to taste the painful punishment.

بیشک تم چکھنے والے ہو دردناک عذاب۔

إِنَّكُمْ لَذَائِقُوا الْعَذَابِ الْأَلِيمِ ﴿٢٨﴾

39. And you will not be recompensed except for what you used to do.

اور نہیں بدلہ دیا جائیگا تکو مگر جو کچھ تم کیا کرتے تھے۔

وَمَا تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿٢٩﴾

40. Except the slaves of Allah, sincere.

سوائے اللہ کے بندے مخلص۔

إِلَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلِصِينَ ﴿٣٠﴾

41. Those, for them is a provision, known.

یہی ہیں جنکے لئے ہے رزق معلوم۔

أُولَئِكَ لَهُمْ رِزْقٌ مَّعْلُومٌ ﴿٣١﴾

42. Fruits, and they shall be honored.

پھل اور انکا اکرام کیا جائیگا۔

فَوَاكِهَ وَهُمْ مُكْرَمُونَ ﴿٣٢﴾

43. In the gardens of delight.

باغات میں نعمت کے۔

فِي جَنَّاتِ التَّعِيمِ ﴿٣٣﴾

44. On couches, facing one another.

تختوں پر ایک دوسرے کے سامنے۔

عَلَى سُرُرٍ مُتَقَابِلِينَ ﴿٣٤﴾

45. Circulating among them a cup from a gushing spring.

دورہ ہو گا ان پر جام کا بہتی شراب کے۔

يُطَافُ عَلَيْهِمْ بِكَأْسٍ مِّنْ مَّعِينٍ ﴿٣٥﴾

46. White, delicious to the drinkers.

سفید لذت والی پینے والوں کیلئے۔

بَيْضَاءَ لَذِيٍّ لِلشَّرْبِ بَيْنَ ﴿٣٦﴾

47. No headache in it, nor they, from it, are intoxicated.

نہ اس میں درد سر اور نہ وہ اس سے بہکیں گے۔

لَا فِيهَا غَوْلٌ وَلَا هُمْ عَنْهَا يُنْزَفُونَ ﴿٣٧﴾

48. And with them will be those of modest gaze, with lovely eyes.

اور انکے پاس ہونگی نیچی نگاہوں خوبصورت آنکھوں والیں۔

وَعِنْدَهُمْ قَصْرٌ طَرَفِ عَيْنٍ ﴿٣٨﴾

49. As they are eggs, well protected.

گویا کہ وہ ہیں انڈے محفوظ کئے ہوئے۔

كَأَنَّھُنَّ بَيْضٌ مَّكُونٌ ﴿٤٩﴾

50. Then they will turn to one another, questioning.

پھر وہ رخ کر کے ایک دوسرے کی طرف سوال کریں گے۔

فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ ﴿٥٠﴾

51. Will say a speaker of them: Indeed, I had a friend.

کہے گا ایک کہنے والا ان میں سے کہ دراصل تھا میرا ایک ساتھی۔

قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ إِنِّي كَانَ لِي قَرِينٌ ﴿٥١﴾

52. Who used to say: Are you indeed of those who affirm.

جو کہتا تھا کیا واقعی تم تصدیق کرنے والوں میں ہو۔

يَقُولُ إِنَّكَ لَمِنَ الْمُصَدِّقِينَ ﴿٥٢﴾

53. Is it when we are dead and become dust and bones, shall we indeed be rewarded and punished.

کیا جب ہم مر گئے اور ہو گئے مٹی اور ہڈیاں تو کیا یقیناً ہمیں جزاء و سزا دی جائے گی۔

عِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا ۗ أَلَمْ يَلْمِزْنَاكَ لَمَّا كُنَّا نَمُوتُ ﴿٥٣﴾

54. He will say: Do you want to look.

وہ کہے گا کیا تم دیکھنا چاہتے ہو۔

قَالَ هَلْ أَرَبُّكُمْ مُّطَّلِعُونَ ﴿٥٤﴾

55. So he will look and will see him in the midst of the Hell.

تو وہ جھانکے گا پس دیکھے گا اسکو بیچ دوزخ میں۔

فَاطَّلَعَ فَرَآهُ فِي سَوَاءِ الْجَحِيمِ ﴿٥٥﴾

56. He will say: By Allah, almost you had ruined me.

کہے گا اللہ کی قسم قریب تھا تو مجھے ہلاک کر دیتا۔

قَالَ تَاللَّهِ إِن كِدَّتْ لَتُزِدَّنِي ۖ وَ لَوْ لَا نِعْمَةُ رَبِّي لَكُنْتُ مِنَ الْمُحْضَرِينَ ﴿٥٦﴾

57. And if it had not been for the favor of my Lord, I would have been among those brought forth.

اور اگر نہ ہوتی مہربانی میرے رب کی تو میں ہوتا ان میں جو حاضر کئے گئے ہیں۔

و لَوْ لَا نِعْمَةُ رَبِّي لَكُنْتُ مِنَ الْمُحْضَرِينَ ﴿٥٧﴾

58. Are we then not to die.

تو کیا نہیں ہم اب مرنے والے۔

أَفَمَا نَحْنُ بِمَيِّتِينَ ۚ ﴿٥٨﴾

59. Except our first death, and we shall not be those punished.

سوائے ہماری پہلی موت کے اور نہیں ہونگے ہم عذاب پانے والے۔

إِلَّا مَوْتَنَا الْأُولَىٰ وَ مَا نَحْنُ بِمُعَذَّبِينَ ﴿٥٩﴾

60. Indeed this, it surely is the success, supreme.

بیشک یہی وہ یقینی کامیابی ہے بہت بڑی۔

إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْقَوْزُ الْعَظِيمُ ﴿٦٠﴾

61. For the like (success) of this, then should work the workers.

ایسی ہی (کامیابی) کے لئے تو چاہیے کہ عمل کریں عمل کر نیوالے۔

مِثْلِ هَذَا فَلْيَعْمَلِ الْعَامِلُونَ ﴿٦١﴾

62. Is that better as a welcome, or the tree of Zaqquq.

کیا یہ بہتر ہے بطور مہمانی یا درخت زقوم کا۔

أَذَلِكْ خَيْرٌ نُّزُلًا أَمْ شَجَرَةُ الزَّقُّومِ ﴿٦٢﴾

63. Indeed, We have made it a trial for the wrongdoers.

بیشک ہم نے بنایا ہے اسکو آزمائش ظالموں کے لئے۔

إِنَّا جَعَلْنَهَا فِتْنَةً لِلظَّالِمِينَ ﴿٦٣﴾

64. Indeed, It is a tree that grows out of the bottom of Hell.

یقیناً وہ ہے ایک درخت جو نکلتا ہے جہنم کی تہ میں۔

إِنَّهَا شَجَرَةٌ تَخْرُجُ فِي أَصْلِ الْجَحِيمِ ﴿٦٤﴾

65. The shoots of its fruit as if heads of the devils.

اسکے خوشے گویا کہ سر میں شیطانوں کے۔

طَلْعُهَا كَأَنَّهُ رُءُوسُ الشَّيْطَانِ ﴿٦٥﴾

66. Then indeed, they will eat from it, then they fill with it bellies.

پھر بیشک وہ کھائیں گے اس میں سے پھر وہ بھریں گے اسی سے پیٹوں کو۔

فَأَنَّهُمْ لَا يَكُونُونَ مِنْهَا فَمَلِئُونَ مِنْهَا الْبُطُونَ ﴿٦٦﴾

67. Then indeed, for them is, upon it, a drink of boiling water.

پھر یقیناً انکے لئے ہوگا اس پر پینے کے لئے کھولتا ہوا پانی۔

ثُمَّ إِنَّ لَهُمْ عَلَيْهَا لَشَوْبًا مِّنْ حَمِيمٍ ﴿٦٧﴾

68. Then indeed, their return will be surely to Hellfire.

پھر یقیناً انکی واپسی بلاشبہ دوزخ ہی کی طرف ہوگی۔

ثُمَّ إِنَّ مَرْجِعَهُمْ لَإِلَى الْجَحِيمِ ﴿٦٨﴾

69. Indeed, they found their fathers astray.

یقیناً انہوں نے پایا اپنے اجداد کو گمراہ۔

إِنَّهُمْ أَفْوُوا أَبَاءَهُمْ ضَالِّينَ ﴿٦٩﴾

70. So they, in their footsteps, hasten.

سو وہ اُنکے نقش قدم پر دوڑتے ہیں۔

فَهُمْ عَلَىٰ أَثَرِهِمْ يُهْرَعُونَ ﴿٧٠﴾

71. And certainly went astray, before them, most of the ancients.

اور بیشک گمراہ ہو گئی تھی ان سے پیشتر اشریت پہلے لوگوں کی۔

وَلَقَدْ ضَلَّ قَبْلَهُمْ أَكْثَرُ الْأَوَّلِينَ ﴿٧١﴾

72. And certainly, We sent among them warners.

اور بیشک ہم نے بھیجے ان میں ڈرانے والے۔

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا فِيهِمْ مُّنذِرِينَ ﴿٧٢﴾

73. Then see how was the end of those who had been warned.

سو دیکھ لو کیسا ہوا تھا انجام ان لوگوں کا جنہیں ڈرایا گیا تھا۔

فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُنذَرِينَ ﴿٧٣﴾

74. Except the slaves of Allah, sincere.

سوائے اللہ کے بندے مخلص۔

إِلَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلِصِينَ ﴿٧٤﴾

75. And indeed, called Us Noah, so We are the best of responders.

اور بیشک پکارا ہمیں نوح نے سو کیسے اچھے میں ہم دعا کو قبول کر نیوالے۔

وَلَقَدْ نَادَانَا نُوحٌ فَلَنِعْمَ الْمُجِيبُونَ ﴿٧٥﴾

76. And We saved him and his household from the great affliction.

اور ہم نے نجات دی اسکو اور اسکے گھر والوں کو بڑی مصیبت سے۔

وَبَجَّيْنَاهُ وَآهْلَهُ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ ﴿٧٦﴾

77. And We made his progeny to be the survivors.

اور بنا دیا ہم نے اسکی اولاد کو باقی رہنے والا۔

وَجَعَلْنَا ذُرِّيَّتَهُ هُمُ الْبَاقِينَ ﴿٧٧﴾

78. And We left (a mention) of him among later generations.

اور باقی رکھا ہم نے (ذکر) اسکا پیچھے آئیوں میں۔

وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ ﴿٧٨﴾

79. Peace be upon Noah among the nations.

سلام ہو نوح پر تمام جہان والوں میں۔

سَلَامٌ عَلَىٰ نُوحٍ فِي الْعَالَمِينَ ﴿٧٩﴾

80. Indeed, thus do We reward the righteous.

یقیناً ایسا بدلہ دیتے ہیں ہم نیکوں کو۔

إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ ﴿٨٠﴾

81. Indeed, he was among Our believing slaves.

بیشک وہ تھا ہمارے مومن بندوں میں سے۔

إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ ﴿٨١﴾

82. Then We did drown the others.

پھر غرق کر دیا ہم نے دوسروں کو۔

ثُمَّ أَغْرَقْنَا الْأَخْرَيْنَ ﴿٨٢﴾

83. And indeed, among his followers was Abraham.

اور بیشک اس ہی کے پیروں میں تھا ابراہیم۔

وَإِنَّ مِنْ شِيعَتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ ﴿٨٣﴾

84. When he came to his Lord with a pure heart.

جب وہ آیا اپنے رب کے پاس قلب سلیم کے ساتھ۔

إِذْ جَاءَ رَبَّهُ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ ﴿٨٤﴾

85. When he said to his father and his people: What is it that which you worship.

جب کہا اس نے اپنے باپ سے اور اپنی قوم سے کیا ہے یہ جسکی تم عبادت کرتے ہو۔

إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَ قَوْمِهِ مَاذَا تَعْبُدُونَ ﴿٨٥﴾

86. Is it a falsehood, gods besides Allah that you desire.

کیا جھوٹے معبود سوائے اللہ کے تم چاہتے ہو۔

أَيَفْكَأُ إِلَهَةً دُونَ اللَّهِ تُرِيدُونَ ﴿٨٦﴾

87. Then what is your opinion about the Lord of the worlds.

تو کیا گمان ہے تمہارا رب العالمین کے بارے میں۔

فَمَا ظَنُّكُمْ بِرَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿٨٧﴾

88. Then he glanced a glance at the stars.

پھر ڈالی اسے ایک نظر ستاروں پر۔

فَنظَرَ نَظْرَةً فِي النُّجُومِ ﴿٨٨﴾

89. Then he said: Indeed, I am sick.

پھر کہا اسے بیشک میں بیمار ہوں۔

فَقَالَ إِنِّي سَقِيمٌ ﴿٨٩﴾

90. So they turned away from him, departing.

تو وہ پلٹ پڑے اس سے چل دیے۔

فَتَوَلَّوْا عَنْهُ مُدْبِرِينَ ﴿٩٠﴾

91. So he turned to their gods then said: Do you not eat.

پھر پلٹا وہ انکے معبودوں کی طرف پھر کہنے لگا۔ کیا نہیں تم کھاتے۔

فَرَاغَ إِلَى إِلِهِتِهِمْ فَقَالَ أَلَا تَأْكُلُونَ ﴿٩١﴾

92. What is with you, you do not speak.

کیا ہوا ہے تمہیں۔ تم بولتے نہیں۔

مَا لَكُمْ لَا تَنْطِقُونَ ﴿٩٢﴾

93. Then he turned upon them, striking with right hand.

پھر جا پڑا وہ ان پر مارتے ہوئے دائیں ہاتھ سے۔

فَرَاغَ عَلَيْهِمْ صَرْبًا بِالْيَمِينِ ﴿١٣﴾

94. Then they turned towards him, running.

پھر وہ پلٹے اس کی طرف دوڑتے ہوئے۔

فَاتَقَبَلُوا إِلَيْهِ يَزْفُونَ ﴿١٤﴾

95. He said: Do you worship that which you carve yourselves.

کہا اس نے کیا پوجتے ہو وہ جنکو خود تراشتے ہو۔

قَالَ أَتَعْبُدُونَ مَا تَنْحِتُونَ ﴿١٥﴾

96. And Allah created you and those that you make.

اور اللہ نے پیدا کیا تمہیں اور ان کو جو تم بناتے ہو۔

وَ اللَّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ ﴿١٦﴾

97. They said: Build for him a building, then throw him into the blazing fire.

وہ کہنے لگے بناؤ اسکے لئے ایک عمارت پھر ڈالو اسکو دہکتی آگ میں۔

قَالُوا ابْنُوا لَهُ بُنْيَانًا فَأَلْقُوهُ فِي الْجَحِيمِ ﴿١٧﴾

98. So they intended against him a plot, then We made them the lowest.

سو ارادہ کیا انہوں نے اسکے ساتھ ایک چال کا تو کر دیا ہم نے انکو نیچا۔

فَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَسْفَلِينَ ﴿١٨﴾

99. And he said: Indeed, I am going to my Lord. He will guide me.

اور کہا اے بیشک میں جاتا ہوں اپنے رب کی طرف وہ مجھے ہدایت دیگا۔

وَ قَالَ إِنِّي ذَاهِبٌ إِلَىٰ رَبِّي سَيَهْدِينِ ﴿١٩﴾

100. My Lord, grant me (offspring) from the righteous.

میرے رب عطا فرما مجھے (اولاد) جو نیکو کاروں میں سے ہو۔

رَبِّ هَبْ لِي مِنَ الصَّالِحِينَ ﴿٢٠﴾

101. So We gave him good tidings of a gentle son.

تو بشارت دی ہم نے اسے ایک بردبار لڑکے کی۔

فَبَشَّرْنَاهُ بِغُلَامٍ حَلِيمٍ ﴿٢١﴾

102. Then when he reached with him (the age) of serious work, he said: O my son

سوجب وہ پہنچا اسکے ساتھ (عمر کو) دوڑ دھوپ کی تو کہا اس نے اے

فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ قَالَ يَبْنَئِي إِنِّي آتَىٰ فِي الْمَتَامِ آتَىٰ

indeed, I have seen in a dream that I am slaughtering you, so look, what do you think. He said: O my father, do that which you are commanded. You shall find me, if so wills Allah, of the steadfast.

میرے بیٹے بیشک میں نے دیکھا ہے خواب میں کہ میں ذبح کر رہا ہوں تجھ کو تو دیکھ کہ کیا ہے تیرا ارادہ۔ اس نے کہا اے میرے باپ کر دے وہ جسکا تجھ کو حکم ہوا تو مجھے پائے گا اگر چاہا اللہ نے صابروں میں۔

أَذْبَحَكَ فَاَنْظُرْ مَاذَا تَرَى قَالَ
يَا بَتِ افْعَلْ مَا تُؤْمَرُ سَتَجِدُنِي
اِنْ شَاءَ اللهُ مِنَ الصَّابِرِينَ ﴿١٢﴾

103. Then, when they both had submitted and he laid him down upon his forehead.

پھر جب تسلیم کر لیا دونوں نے اور لٹا دیا اس نے اسکو ماتھے کے بل۔

فَلَمَّا اسَلَمَا وَ تَلَّهٗ لِلْجَبِيْنِ ﴿١٣﴾

104. And We called out to him that: O Abraham.

اور پکارا ہم نے اس کو کہ اے ابراہیم۔

وَ نَادَيْنَاهُ اَنْ يَّابْرٰهِيْمَ ﴿١٤﴾

105. Certainly, you have fulfilled the dream. Indeed, thus do We reward the righteous.

بیشک تو نے سچ کر دکھایا خواب۔ یقیناً ایسا ہی ہم بدلہ دیا کرتے ہیں نیکو کاروں کو۔

قَدْ صَدَقْتَ الرَّءِیْآ اِنَّا كَذَلِكْ
نَجْزِی الْمُحْسِنِیْنَ ﴿١٥﴾

106. Indeed this, it was a manifest trial.

بلاشبہ یہی تھی وہ ایک کھلی آزمائش۔

اِنَّ هَذَا هُوَ الْبَلّٰوُ الْمُبِیْنِ ﴿١٦﴾

107. And We ransomed him with a great sacrifice.

اور دیا ہم نے فدیہ میں اسکو ایک بڑی قربانی۔

وَ فَدَيْنَاهُ بِذَبْحٍ عَظِيْمٍ ﴿١٧﴾

108. And We left (a mention) of him among later generations.

اور باقی رکھا ہم نے اسکا (ذکر) بعد میں آبیوالوں میں۔

وَ تَرَكْنَا عَلَیْهِ فِی الْاٰخِرِیْنَ ﴿١٨﴾

109. Peace be upon Abraham.

سلام ہو ابراہیم پر۔

سَلَّمَ عَلَیْ اِبْرٰهِيْمَ ﴿١٩﴾

110. Thus do We reward the righteous.

ایسا بدلہ دیتے ہیں ہم نیکو کاروں کو۔

كَذَلِكْ نَجْزِی الْمُحْسِنِیْنَ ﴿٢٠﴾

111. Indeed, he was among Our believing slaves.

بیشک وہ تھا ہمارے مومن بندوں میں۔

إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ ﴿١١١﴾

112. And We gave him the good tidings of Isaac, a prophet from among the righteous.

اور بشارت دی ہم نے اس کو اسحق کی جو نبی ہوگا صالحین میں سے۔

وَبَشَّرْنَاهُ بِإِسْحَاقَ نَبِيًّا مِّنَ الصَّالِحِينَ ﴿١١٢﴾

113. And We bestowed blessings upon him and upon Isaac. And of their progeny is he who does good and he who does wrong to himself openly.

اور برکت نازل کی ہم نے اس پر اور اسحق پر۔ اور ان کی اولاد میں ہے کوئی نیکی کرنیوالا اور کوئی ظلم کرنیوالا اپنی جان پر کھلے طور پر۔

وَبَرَكْنَا عَلَيْهِ وَعَلَىٰ إِسْحَاقَ وَمِن ذُرِّيَّتِهِمَا مُحْسِنٌ وَظَالِمٌ لِّنَفْسِهِ مُبِينٌ ﴿١١٣﴾

114. And certainly, We bestowed favor upon Moses and Aaron.

اور یقیناً احسان کیا ہم نے موسیٰ پر اور ہارون پر۔

وَلَقَدْ مَنَّا عَلَىٰ مُوسَىٰ وَهَارُونَ ﴿١١٤﴾

115. And We saved them and their people from the great distress.

اور نجات دی ہم نے ان دونوں کو اور انکی قوم کو بڑی مصیبت سے۔

وَنَجَّيْنَاهُمَا وَقَوْمَهُمَا مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ ﴿١١٥﴾

116. And We helped them so they became the victors.

اور مدد کی ہم نے انکی تو وہ ہو گئے غالب۔

وَنَصَرْنَاهُمْ فكَانُوا هُمُ الْغَالِبِينَ ﴿١١٦﴾

117. And We gave them both the Scripture making things clear.

اور دی ہم نے ان دونوں کو کتاب واضح کرنیوالی۔

وَأَتَيْنَاهُمَا الْكِتَابَ الْمُسْتَبِينَ ﴿١١٧﴾

118. And We guided them both to the right path.

اور ہدایت دی ہم نے دونوں کو سیدھے رستہ پر۔

وَهَدَيْنَاهُمَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ ﴿١١٨﴾

119. And We left (a mention) of them both among later generations.

اور باقی رکھا ہم نے (ذکر) ان دونوں کا بعد میں آنیوالوں میں۔

وَتَرَكْنَا عَلَيْهِمَا فِي الْأَخْيَرِينَ ﴿١١٩﴾

120. Peace be upon
Moses and Aaron.

سلام ہو موسیٰ پر اور ہارون پر۔

سَلَّمَ عَلَىٰ مُوسَىٰ وَ هَارُونَ ﴿١٢٠﴾

121. Indeed, thus do
We reward the
righteous.

یقیناً ایسا ہی بدلہ دیا کرتے ہیں ہم
نیکی کاروں کو۔

إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ ﴿١٢١﴾

122. Indeed, they both
were among Our
believing slaves.

یقیناً وہ دونوں تھے ہمارے مومن
بندوں میں۔

إِنَّهُمَا مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ ﴿١٢٢﴾

123. And indeed, Elias
was from among the
messengers.

اور بلاشبہ الیاس رسولوں میں سے
تھا۔

وَ إِنَّ إِلْيَاسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ ﴿١٢٣﴾

124. When he said to
his people: Do you not
fear.

جب کہا اس نے اپنی قوم سے کیا
نہیں تم ڈرتے۔

إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَلَا تَتَّقُونَ ﴿١٢٤﴾

125. Do you call upon
Baal and forsake the
best of creators.

کیا تم پکارتے ہو بعل کو اور چھوڑے
دیتے ہو سب سے بہتر خالق کو۔

أَتَدْعُونَ بَعْلًا وَ تَذَرُونَ أَحْسَنَ
الْخَالِقِينَ ﴿١٢٥﴾

126. Allah, your Lord
and the Lord of your
forefathers of old.

اللہ جو رب ہے تمہارا اور رب ہے
تمہارے پہلے باپ دادوں کا۔

اللَّهُ رَبُّكُمْ وَ رَبُّ آبَائِكُمُ
الْأُولَىٰ ﴿١٢٦﴾

127. So they denied
him, then indeed, they
will be brought forth.

تو جھٹلا دیا انہوں نے اسے سو بیشک
وہ ضرور حاضر کئے جائیں گے۔

فَكَذَّبُوهُ فَأَنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ ﴿١٢٧﴾

128. Except the slaves
of Allah, sincere.

سوائے اللہ کے بندے۔ مخلص۔

إِلَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلِصِينَ ﴿١٢٨﴾

129. And We left (a
mention) of him among
later generations.

اور باقی رکھا ہم نے (ذکر) اس کا بعد میں
آئیوالوں میں۔

وَ تَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ ﴿١٢٩﴾

130. Peace be upon
Elias.

سلام ہو الیاسین پر۔

سَلَّمَ عَلَىٰ إِيَّاسِينَ ﴿١٣٠﴾

131. Indeed, thus do We reward the righteous.

یقیناً ایسا ہی بدلہ دیا کرتے ہیں ہم نیکو کاروں کو۔

إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ ﴿١٣١﴾

132. Indeed, he was among our believing slaves.

بیشک وہ تھا ہمارے مومن بندوں میں سے۔

إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ ﴿١٣٢﴾

133. And indeed, Lot was surely among the messengers.

اور بلاشبہ لوط یقیناً رسولوں میں سے تھا۔

وَإِنَّ لُوطًا لَّمِنَ الْمُرْسَلِينَ ﴿١٣٣﴾

134. When We saved him and his household, all of them.

جب نجات دی ہم نے اسکو اور اسکے گھر والوں کو۔ سب کو۔

إِذْ نَجَّيْنَاهُ وَآهْلَهُ أَجْمَعِينَ ﴿١٣٤﴾

135. Except an old woman among those who remained behind.

سوائے ایک بڑھیا جو تھی پیچھے رہ جانیوالوں میں۔

إِلَّا عَجُوزًا فِي الْغَابِرِينَ ﴿١٣٥﴾

136. Then We destroyed the others.

پھر ہلاک کر دیا ہم نے دوسروں کو۔

ثُمَّ دَمَّرْنَا الْآخَرِينَ ﴿١٣٦﴾

137. And indeed, you pass by (the towns) of them in the morning.

اور بیشک تم گزرتے ہو ان (بستیوں) کے پاس سے صبح کے اوقات میں۔

وَإِنَّكُمْ لَتَمُرُّونَ عَلَيْهِمْ مُصْبِحِينَ ﴿١٣٧﴾

138. And at night, do you not then have sense.

اور رات کو تو کیا نہیں تم عقل رکھتے۔

وَبِالْأَيْلِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ﴿١٣٨﴾

139. And indeed, Jonah was surely among the messengers.

اور بلاشبہ یونس یقیناً رسولوں میں سے تھا۔

وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ ﴿١٣٩﴾

140. When he fled to the boat that was laden.

جب چلا گیا وہ کشتی میں جو تھی بھری ہوئی۔

إِذْ أَبَقَ إِلَى الْفُلِّ الْمَشْحُونِ ﴿١٤٠﴾

141. So he took part in the casting of lots, so he was among those lost.

پھر شریک ہوا قرعہ اندازی میں تو ہوا وہ ہارنے والوں میں۔

فَسَاهَمَ فَكَانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ ﴿١٤١﴾

142. Then swallowed him the fish while he was blameworthy.

پھر نگل لیا اسکو مچھلی نے جبکہ تھا وہ
ملامت زدہ۔

فَالْتَمَمَهُ الْحُوتُ وَ هُوَ مُلِيمٌ ﴿٤٢﴾

143. Then if it had not been that he was of those who glorify.

پھر اگر نہ ہوتا یہ کہ وہ ہوا تسبیح
کرنیوالوں میں۔

فَلَوْلَا أَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِينَ ﴿٤٣﴾

144. He would have remained in its belly until the day they are raised.

تو وہ رہ جاتا اسکے پیٹ میں اس دن
تک جب وہ اٹھائے جائیں گے۔

لَكَبْتُ فِي بَطْنِهِ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ ﴿٤٤﴾

145. Then We cast him on a bare land while he was sick.

پھر ڈال دیا ہم نے اسکو ایک چٹیل
میدان میں جبکہ وہ تھا بیمار۔

فَنَبَذْنَاهُ بِالْعَرَاءِ وَ هُوَ سَقِيمٌ ﴿٤٥﴾

146. And We caused to grow above him a tree of gourd.

اور اگا دیا ہم نے اس پر ایک درخت
بیلدار۔

وَ أَنْبَتْنَا عَلَيْهِ شَجَرَةً مِّنْ يَّقْطِينٍ ﴿٤٦﴾

147. And We sent him to a hundred thousand or more than that.

اور بھیجا ہم نے اس کو ایک لاکھ کی
طرف یا اس سے زیادہ۔

وَ أَرْسَلْنَاهُ إِلَى مِائَةِ أَلْفٍ أَوْ يَزِيدُونَ ﴿٤٧﴾

148. So they believed, then We gave them benefits for a while.

تو وہ ایمان لے آئے سو فائدہ پہنچایا
ہم نے انہیں ایک مدت تک۔

فَأَمَنُوا فَمَتَّعْنَاهُمْ إِلَىٰ حِينٍ ﴿٤٨﴾

149. So ask them: Are there for your Lord the daughters, and for them the sons.

تو ان سے پوچھو کیا تیرے رب کے
لئے ہیں بیٹیاں اور انکے لئے بیٹے۔

فَأَسْتَفْتِهِمْ أَلِرَبِّكَ الْبَنَاتُ وَ لَهُمُ الْبُتُونَ ﴿٤٩﴾

150. Or did We create the angels as females and they are witnesses.

یا بنایا ہے ہم نے فرشتوں کو عورتیں
اور یہ ہیں گواہ۔

أَمْ خَلَقْنَا الْمَلَائِكَةَ إِنَاثًا وَ هُمْ شَاهِدُونَ ﴿٥٠﴾

151. Is it not, indeed it is of their falsehood

کیا نہیں یقیناً یہ اپنی گھڑی ہوئی بات

آلَا إِنَّهُمْ مِّنْ أَفْكَهْمُ

that they say.

کہتے ہیں۔

لَيَقُولُونَ^{لا}

152. Allah has begotten, and indeed they are surely liars.

کہ اولاد رکھتا ہے اللہ اور بلاشبہ یہ میں یقیناً جھوٹے۔

وَلَدَ اللَّهُ^{لا} وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ^{لا}

153. He has chosen daughters over sons.

منتخب کیا اسے بیٹیوں کو بیٹوں پر۔

أَصْطَفَى^ط الْبَنَاتِ عَلَى الْبَنِينَ^{لا}

154. What is with you. How do you judge.

کیا ہوا ہے تمہیں کیا فیصلہ کرتے ہو۔

مَا لَكُمْ^{تف} كَيْفَ تَحْكُمُونَ^{لا}

155. Then do not you ponder.

تو کیا نہیں تم غور کرتے ہو۔

أَفَلَا تَذَكَّرُونَ^{لا}

156. Or do you have a clear authority.

یا تمہارے پاس ہے واضح دلیل۔

أَمْ لَكُمْ^{لا} سُلْطَنٌ مُّبِينٌ^{لا}

157. Then bring your scripture if you are truthful.

تو لے آؤ اپنی کتاب اگر تم ہوچے۔

فَأْتُوا^ط بِكِتَابِكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ^{لا}

158. And they have invented between Him (Allah) and the jinn a kinship, and indeed know the jinn that certainly they will be brought forth.

اور بنا رکھا ہے انہوں نے اس (اللہ) کے اور جنوں کے درمیان رشتہ۔ اور بلاشبہ جانتے ہیں جنات کہ یقیناً وہ حاضر کئے جائیں گے۔

وَجَعَلُوا^ط بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجِنَّةِ نَسَبًا وَلَقَدْ عَلِمَتِ^{لا} الْجِنَّةُ إِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ^{لا}

159. Glory be to Allah from what they ascribe (to Him).

پاک ہے اللہ اس سے جو یہ منسوب کرتے ہیں (اس سے)۔

سُبْحَانَ اللَّهِ^{لا} عَمَّا يُصِفُونَ^{لا}

160. Except the slaves of Allah, sincere.

سوائے اللہ کے بندے۔ مخلص۔

إِلَّا عِبَادَ اللَّهِ^{لا} الْمُخْلِصِينَ^{لا}

161. So indeed, you and whatever you worship.

سو بیشک تم اور وہ جنکی تم عبادت کرتے ہو۔

فَأِنَّكُمْ^{لا} وَمَا تَعْبُدُونَ^{لا}

162. You cannot turn anyone against Him.

نہیں ہو تم اس کے خلاف بہکانیوالے۔

مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ^{لا} بِفِتْنِينَ^{لا}

163. Except him who will burn in the Hell.

سوائے اسکے جو جلے گا جہنم میں۔

إِلَّا مَنْ هُوَ صَالِ الْجَحِيمِ ﴿١٦٣﴾

164. And there is not among us any except he has a known position.

اور نہیں ہے ہم میں کوئی مگر اسکا ہے ایک مقام مقرر۔

وَمَا مِمَّنَّا إِلَّا لَهُ مَقَامٌ مَّعْلُومٌ ﴿١٦٤﴾

165. And indeed, we are those who set the ranks.

اور بلاشبہ ہم ہی صف باندھے رہتے ہیں۔

وَإِنَّا لَنَحْنُ الصَّافُّونَ ﴿١٦٥﴾

166. And indeed, we are those who glorify.

اور بلاشبہ ہم ہی تسبیح کرتے ہیں۔

وَإِنَّا لَنَحْنُ الْمُسَبِّحُونَ ﴿١٦٦﴾

167. And indeed, they used to say.

اور اگرچہ یہ لوگ کہا کرتے تھے۔

وَإِنْ كَانُوا لَيَقُولُونَ ﴿١٦٧﴾

168. If that we had a reminder from the former people.

اگر یہ کہ ہوتی ہمارے پاس نصیحت کوئی اگلوں کی۔

لَوْ أَنَّ عِنْدَنَا ذِكْرًا مِّنَ الْأَوَّلِينَ ﴿١٦٨﴾

169. Surely, we would have been slaves of Allah, sincere.

یقیناً ہم ہوتے اللہ کے بندے - مخلص -

لَكِنَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلِصِينَ ﴿١٦٩﴾

170. Yet they disbelieve in it, then soon they shall know.

تو کفر کیا انہوں نے اسکا سو جلد یہ جان لیں گے۔

فَكَفَرُوا بِهِ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ ﴿١٧٠﴾

171. And certainly, has gone forth Our word for Our slaves, the messengers.

اور بلاشبہ گذر چکا ہے ہمارا قول اپنے بندوں کے لئے جو رسول تھے۔

وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ ﴿١٧١﴾

172. That indeed, they would be those helped.

یقیناً وہ ہی ہیں جنکی مدد کی جائیگی۔

إِنَّهُمْ لَهُمُ الْمَنْصُورُونَ ﴿١٧٢﴾

173. And indeed, Our host, they are those who would be the victors.

اور یقیناً ہمارے لشکر - وہ ہی ہیں جو ہونگے غالب۔

وَإِنَّ جُنْدَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ ﴿١٧٣﴾

174. So withdraw from them for a while.

سو منہ پھیرے رہو انسے کچھ وقت۔

فَتَوَلَّ عَنْهُمْ حَتَّىٰ حِينٍ ﴿١٧٤﴾

175. And watch them, then soon they shall see.

اور انہیں دیکھتے رہو پھر جلد یہ بھی دیکھ لیں گے۔

وَ أَبْصِرْهُمْ فَسَوْفَ يُبْصَرُونَ

۱۷۵

176. Is it that for Our punishment, they seek to hasten.

کیا یہ ہمارے عذاب کی جلدی کر رہے ہیں۔

أَفِعِذَابِنَا يُسْتَعْجِلُونَ

۱۷۶

177. Then when it descends into their courtyard, then evil will be the morning of those who were warned.

پھر جب وہ آترے گا انکے صحن میں تو بری ہوگی صبح انکی جنکو ڈرایا گیا تھا۔

فَإِذَا نَزَلَ بِسَاحَتِهِمْ فَسَاءَ

صَبَاحُ الْمُنذَرِينَ

۱۷۷

178. And withdraw from them for a while.

اور منہ پھیرے رہو انے کچھ وقت۔

وَتَوَلَّ عَنْهُمْ حَتَّىٰ حِينٍ

۱۷۸

179. And watch, then soon they shall see.

اور دیکھتے رہو عنقریب یہ دیکھ لینگے۔

وَ أَبْصِرْ فَسَوْفَ يُبْصَرُونَ

۱۷۹

180. Glorified be your Lord, the Lord of Majesty, from that which they attribute.

پاک ہے تیرا رب عزت والا رب اس سے جو کچھ یہ بیان کرتے ہیں۔

سُبْحٰنَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا

يَصِفُونَ

۱۸۰

181. And peace be upon the messengers.

اور سلام ہو رسولوں پر۔

وَسَلَّمَ عَلَى الْمُرْسَلِينَ

۱۸۱

182. And all praise be to Allah, Lord of the worlds.

اور تمام حمد ہے اللہ کیلئے جو رب ہے سارے جہانوں کا۔

وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

۱۸۲

